

﴿ سَيِّدَا نَبِي التَّوْبَةِ ﴾

سرکار ہمارے نبی توبہ قبول ہونے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَا حَرِيصِ عَلِيكُمْ ﴾

سرکار ہمارے مہربان اور تمہارے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَا مَعْلُوم ﴾

سرکار ہمارے جانے گئے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَا شَهِيْر ﴾

سرکار ہمارے مشہور

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَا شَاهِد ﴾

سرکار ہمارے گواہی دینے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَا شَهِيْد ﴾

سرکار ہمارے گواہ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَا مَشْهُود ﴾

سرور ہمارے گواہی دیئے گئے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَا بَشِير ﴾

سرور ہمارے خوشخبری دینے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَا مَبْشُر ﴾

سرور ہمارے خوشخبری پہنچانے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَا نَذِير ﴾

سرور ہمارے ڈرانے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَا مَنْذِر ﴾

سرور ہمارے ڈرانے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَا نُور ﴾

سرور ہمارے نور

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سیدنا سراج

سردار ہمارے چراغ (دو جہاں کے)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سیدنا مصباح

سردار ہمارے چراغ روشن

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سیدنا ہدی

سردار ہمارے ہدایت والے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سیدنا مہدی

سردار ہمارے ہدایت دیئے گئے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سیدنا منیر

سردار ہمارے روشن

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سیدنا داع

سردار ہمارے بلانے والے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا



صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَآلِهِ
وَسَلَّمَ
تَسْلِيمًا
كَثِيرًا
كَثِيرًا
كَثِيرًا

صَلَّى
اللَّهُ
عَلَيْهِ
وَآلِهِ
وَسَلَّمَ
تَسْلِيمًا
كَثِيرًا
كَثِيرًا
كَثِيرًا

سَيِّدَا مَدْعُو

سرور ہمارے پکارے گئے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدَا مَجِيب

سرور ہمارے قبول کرنے والے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدَا مَجَاب

سرور ہمارے قبول کئے گئے دُعا کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدَا حَفِي

سرور ہمارے بہت مہربان

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدَا عَفُو

سرور ہمارے معاف کرنے والے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدَا وَلِي

سرور ہمارے دوست

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا



سیدنا حق

سرور ہمارے (سرِ پا) حق

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سیدنا قوی

سرور ہمارے زور آور

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سیدنا امین

سرور ہمارے امانت دار

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سیدنا مامون

سرور ہمارے ڈر کئے گئے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سیدنا کریم

سرور ہمارے بزرگ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سیدنا مکرم

سرور ہمارے بزرگی دیئے گئے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَا مَكِين ﴾

سرور ہمارے مرتبے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْإِهْ وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَا مَتِين ﴾

سرور ہمارے استوار

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْإِهْ وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَا مَوْمِل ﴾

سرور ہمارے امیدوار

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْإِهْ وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَا وُصُول ﴾

سرور ہمارے ملنے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْإِهْ وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَا ذَوْ قُوَّة ﴾

سرور ہمارے قوت والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْإِهْ وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَا ذَوْ حَرَمَة ﴾

سرور ہمارے بزرگی والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْإِهْ وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدَنَا رَحْمَةً

سرور ہمارے (سرِ پا) رحمت

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدَنَا بَشْرَى

سرور ہمارے خوشخبری دینے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدَنَا غوث

سرور ہمارے فریادرس

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدَنَا غَيْث

سرور ہمارے مینہ (رحمت کے)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدَنَا غِيَاث

سرور ہمارے سرِ اسر فریادرس

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدَنَا نِعْمَةَ اللهِ

سرور ہمارے اللہ کی نعمت

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا حَزْبُ اللهِ ﴾

سرور ہمارے لشکر اللہ کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا النِّجْمُ الثَّاقِبُ ﴾

سرور ہمارے ستارے چمکتے ہوئے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا مُصْطَفَى ﴾

سرور ہمارے چنے ہوئے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا مُجْتَبَى ﴾

سرور ہمارے برگزیدہ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا مُنْتَقَى ﴾

سرور ہمارے چیدہ اور پاک

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا أُمِّي ﴾

سرور ہمارے ماں خواندہ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سیدنا مختار

سرور ہمارے مختار

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سیدنا اجیر

سرور ہمارے مزدوری دینے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سیدنا جبار

سرور ہمارے عطا کرنے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سیدنا ابو القاسم

سرور ہمارے باپ قاسم کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سیدنا ابو طاہر

سرور ہمارے باپ طاہر کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سیدنا ابو الطیب

سرور ہمارے باپ طیب کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدِنَا ابُو اِبْرَاهِيمِ

سرور ہمارے باپ ابراہیم کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدِنَا مَشْفَعٌ

سرور ہمارے شفاعت کے گئے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدِنَا شَفِيعٌ

سرور ہمارے شفاعت کرنے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدِنَا صَالِحٌ

سرور ہمارے نیک

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدِنَا مُصَلِحٌ

سرور ہمارے اصلاح کرنے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدِنَا مَهِيْمِنٌ

سرور ہمارے تمہبان

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا صَادِق ﴾

سرور ہمارے سچے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا مَصْدَق ﴾

سرور ہمارے تصدیق کئے گئے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا صَدَق ﴾

سرور ہمارے مختار

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ﴾

سرور ہمارے سرور رسولوں کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا اِمَامِ الْمُتَّقِينَ ﴾

سرور ہمارے امام پرہیزگاروں کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحْجَلِينَ ﴾

سرور ہمارے جن کے ہاتھ پاؤں اور پیشانیوں چمکتی ہوں گی، ان کو بہشت میں لے جانے والے۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ ﺳﻴﺪﺍ ﻭﻛﻴﻞ ﴾

سرور ہمارے کار گزار اُمت گنہگار

ﻷﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ

﴿ ﺳﻴﺪﺍ ﻣﺘﻮﻛﻞ ﴾

سرور ہمارے توکل کرنے والے

ﻷﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ

﴿ ﺳﻴﺪﺍ ﻛﻔﻴﻞ ﴾

سرور ہمارے ضامن

ﻷﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ

﴿ ﺳﻴﺪﺍ ﺷﻔﻴﻖ ﴾

سرور ہمارے مہربان

ﻷﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ

﴿ ﺳﻴﺪﺍ ﻣﻘﻴﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﴾

سرور ہمارے برپا کرنے والے طریقہ دین کا

ﻷﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ

﴿ ﺳﻴﺪﺍ ﻣﻘﺪﺱ ﴾

سرور ہمارے پاک کئے گئے

ﻷﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻛﺜﻴﺮﺍ

سَيِّدَا رُوحِ الْقُدُسِ

سرور ہمارے روح پاک

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدَا رُوحِ الْحَقِّ

سرور ہمارے روح حق کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدَا رُوحِ الْقِسْطِ

سرور ہمارے ہمارے روح عدل کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدَا كَافٍ

سرور ہمارے کفایت کرنے والے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدَا مَكْتَفٍ

سرور ہمارے بس کرنے والے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدَا بَالِغٍ

سرور ہمارے پہنچنے والے مرتبہ عالی کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سیدنا مبلغ

سردار ہمارے پہنچانے والے

صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا کَثِیْرًا کَثِیْرًا

سیدنا شاف

سردار ہمارے شفا دینے والے

صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا کَثِیْرًا کَثِیْرًا

سیدنا واصل

سردار ہمارے عامل بخدا

صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا کَثِیْرًا کَثِیْرًا

سیدنا موصول

سردار ہمارے ملے ہوئے حق تعالیٰ سے

صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا کَثِیْرًا کَثِیْرًا

سیدنا سابق

سردار ہمارے پہلے سے

صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا کَثِیْرًا کَثِیْرًا

سیدنا سائق

سردار ہمارے ساتھ جاننے والے

صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تَسْلِیْمًا کَثِیْرًا کَثِیْرًا کَثِیْرًا

سیدنا ہاد

سردار ہمارے راہنما

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سیدنا مہد

سردار ہمارے راہ دکھانے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سیدنا مقدم

سردار ہمارے پیشوا

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سیدنا عزیز

سردار ہمارے غالب

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سیدنا فاضل

سردار ہمارے بزرگ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سیدنا مفضل

سردار ہمارے بزرگی دیئے گئے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا فَاتِح ﴾

سرور ہمارے کھولنے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا مِفْتَاح ﴾

سرور ہمارے کنجی اسرار الہی کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا مِفْتَاح الرَّحْمَةِ ﴾

سرور ہمارے کنجی رحمت کی

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا مِفْتَاح الْجَنَّةِ ﴾

سرور ہمارے کنجی جنت کی

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا عِلْمُ الْاِيْمَانِ ﴾

سرور ہمارے نشان ایمان کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا عِلْمُ الْيَقِيْنِ ﴾

سرور ہمارے نشان یقین کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا دَلِيلُ الْخَيْرَاتِ ﴾

سرور ہمارے رہنما طرف نیکوں کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا مُصَحِّحُ الْحَسَنَاتِ ﴾

سرور ہمارے صحیح کرنے والے نیکوں کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا مُقِيلُ الْعَثَرَاتِ ﴾

سرور ہمارے درگزر کرنے والے خطاؤں سے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا صَفْوَحُ عَنِ الزَّلَّاتِ ﴾

سرور ہمارے درگزر کرنے والے لغزشوں سے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا صَاحِبُ الشَّفَاعَةِ ﴾

سرور ہمارے صاحب شفاعت کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا صَاحِبُ الْمَقَامِ ﴾

سرور ہمارے صاحب مقام محمود

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا صَاحِبُ الْقَلَمِ ﴾

سرور ہمارے صاحب پیشوائی کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا مَخْصُوصٌ بِالْعِزِّ ﴾

سرور ہمارے خاص کئے گئے ساتھ عزت کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا مَخْصُوصٌ بِالْمَجْدِ ﴾

سرور ہمارے خاص کئے گئے ساتھ بزرگی کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا مَخْصُوصٌ بِالشَّرَفِ ﴾

سرور ہمارے خاص کئے گئے ساتھ شرف کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا صَاحِبُ الْوَسِيلَةِ ﴾

سرور ہمارے صاحب وسیلہ کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا صَاحِبُ السِّيفِ ﴾

سرور ہمارے صاحب تلواری کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدَنَا صَاحِبَ الْفَضِيلَةِ

سرور ہمارے صاحب بزرگی کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدَنَا صَاحِبَ الْإِزَارِ

سرور ہمارے صاحب تہ بند کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدَنَا صَاحِبَ الْحِجَّةِ

سرور ہمارے صاحب دلیل استوار کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدَنَا صَاحِبَ السُّلْطَانِ

سرور ہمارے صاحب قلبہ و قدرت کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدَنَا صَاحِبَ الرِّدَاءِ

سرور ہمارے صاحب چادر کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدَنَا صَاحِبَ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ

سرور ہمارے صاحب مرتبہ بلند کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا صَاحِبُ الْخَاتَمِ ﴾

سرور ہمارے خاتم النبوة والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا صَاحِبُ الْعَلَامَةِ ﴾

سرور ہمارے صاحب علامت نبوت کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا صَاحِبُ الْبُرْهَانِ ﴾

سرور ہمارے صاحب دلیل استوار کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا صَاحِبُ الْبَيَانِ ﴾

سرور ہمارے صاحب بیان روشن

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا فَصِيحُ الْلِسَانِ ﴾

سرور ہمارے فصیح زبان کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدِنَا مَطْهَرُ الْجَنَانِ ﴾

سرور ہمارے پاک دل والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَا رَوْف ﴾

سردار ہمارے شفیق

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَا رَحِيم ﴾

سردار ہمارے مہربان

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَا أُذُنُ خَيْر ﴾

سردار ہمارے کان نیکی سننے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَا صَحِيحُ الْاِسْلَام ﴾

سردار ہمارے صحیح اسلام والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَا سَيِّدُ الْكُونِيْنَ ﴾

سردار ہمارے سردار دو جہاں کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَا عَيْنُ النِّعَمِ ﴾

سردار ہمارے چشمہ نعمتوں کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَنَا عَيْنِ الْبَرِّ ﴾

سرور ہمارے جس خیر امت کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَنَا سَعْدِ اللَّهِ ﴾

سرور ہمارے برکت اللہ کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَنَا سَعْدِ الْخَلْقِ ﴾

سرور ہمارے برکت مخلوق کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَنَا خَطِيبِ الْأُمَمِ ﴾

سرور ہمارے خطبہ پڑھنے والے امتوں کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَنَا عِلْمِ الْهُدَى ﴾

سرور ہمارے نشان ہدایت کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدَنَا كَاشِفِ الْكُرْبِ ﴾

سرور ہمارے کھولنے والے سختیوں کے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدِنَا رَافِعِ الرَّتَبِ

سرور ہمارے بلند کرنے والے رتبوں کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدِنَا عِزِّ الْعَرَبِ

سرور ہمارے عزت عرب کے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

سَيِّدِنَا صَاحِبِ الْفَرَجِ

سرور ہمارے صاحبِ کشمکش

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

(بحوالہ : دلائل الخیرات)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا



يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

﴿حَاشِرٌ﴾

اکٹھا کرنا والے

کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ ﷺ کو اٹھایا جائے گا اور باقی لوگ آپ ﷺ کے بعد اٹھائے جائیں گے تو ان سب کے جمع کرنے کا ذریعہ آپ ﷺ ہوں گے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿عَاقِبٌ﴾

آخری پیغمبر

آپ ﷺ سارے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد تشریف لائے ہیں۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿مُقَفًّى﴾

آخری نبی (خاتم النبیین)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿نَبِيُّ التَّوْبَةِ﴾

توبہ والے نبی

آپ ﷺ کی شریعت میں گناہوں کی معافی کے لئے صرف توبہ ہی کافی ہے، لیکن توبہ اپنی شرائط کے ساتھ کی جائے۔ پہلی امتوں میں گناہوں کی معافی کے لئے خود قتل کرنا بھی ضروری ہوتا تھا۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا



﴿ اَمِينٌ ﴾

امانت دار..... معتبر

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ شَاهِدٌ ﴾

کو اہی دینے والے

آپ ﷺ قیامت کے دن اپنی امت کے شاہد (کواہ) ہوں گے۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ مُبَشِّرٌ بِشَيْرٍ ﴾

خوشخبری دینے والے

مؤمنین کو جنت کی خوشخبری دینے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ نَذِيرٌ ﴾

ڈرانے والے

کافروں کو عذاب سے ڈرانے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ قَاسِمٌ ﴾

تقسیم کرنے والے

فیوض اور اموال تقسیم کرنے والے

﴿ صاحب مقام ﴾

قیامت کے دن مقام شفاعت پر آپ ﷺ کھڑے کئے جائیں گے۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ صادق ﴾

تھے

آپ ﷺ سچی خبریں دینے والے تھے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ رؤف رحيم ﴾

ان دونوں کے معنی مہربان اور بہت مہربان کے ہیں۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ حامد ﴾

اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ محمود ﴾

تعریف کئے گئے

آپ ﷺ کی پچھلی کتابوں میں تعریف کی گئی ہے۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا



﴿ رَشِيدٌ ﴾

سیدھا راستہ دکھانے والے

آپ ﷺ سارے عالم کو سیدھے راستے دکھانے والے ہیں۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ مَشْهُودٌ ﴾

کو ابھی دیئے گئے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ دَاعٍ ﴾

بلانے والے

آپ ﷺ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے والے ہیں۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ شَافٍ ﴾

شفا کا سبب

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی برکت سے انسانوں کو روحانی اور جسمانی شفا عطا فرمائی۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ هَادٍ ﴾

رہنمائی کرنے والے

ساری انسانیت کے لئے راہنما۔

﴿ مَهْدٍ ﴾

مجسم ہدایت، سراپا ہدایت

آپ ﷺ بنی نوع انسان کے لئے سراپا ہدایت ہیں۔
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ مُنَجٍّ ﴾

نجات دلانے والے (نجات کا سبب)

ساری انسانیت کو اپنی شریعت کے ذریعے (عذاب سے) نجات دلانے والے
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ نَاهٍ ﴾

برائی سے روکنے والے

آپ ﷺ برائی سے روکنے والے تھے۔
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ نَبِيٍّ ﴾

خبر دینے والے

آپ ﷺ جنت و دوزخ، آخرت و حشر وغیرہ کی خبر دینے والے تھے۔
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ أُمِّيٍّ ﴾

ناخواندہ (آپ ﷺ کسی مکتب میں پڑھے وائے نہیں تھے)۔

﴿ تِهَامِي ﴾

مکہ مکرمہ کے رہنے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ هَاشِمِي ﴾

آپ ﷺ کا تعلق بنو ہاشم قبیلے سے تھا۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ أَبْطَحِي ﴾

بٹھا کے رہنے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ عَزِيْز ﴾

غالب ، عزت والے

آپ ﷺ اپنے دین حق سے سارے باطل دینوں پر غالب ہوئے اور سارے عالم میں

آپ ﷺ کو عزت حاصل ہوئی۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ ﴾

مؤمنوں کی بھلائی کے لئے حرص کرنے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا



﴿ مُصْطَفَى ﴾

رسولوں میں پسند و منتخب کئے گئے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ يَسَّ ﴾

(والله تعالى اعلم)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ أَوْلَى ﴾

لا اقتر

سب سے زیادہ قابلیت والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ مُزَمَّلٌ ﴾

کپڑے میں لپٹے ہوئے

اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ ﷺ کے لئے محبت بھرا خطاب

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ وَكَلِيٌّ ﴾

سرپرست، دوست، مددگار

آپ ﷺ مومنوں کے دوست اور مددگار ہیں۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ عَالِمٌ ﴾

علم والے

تمام علوم شریعت کے جاننے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا

﴿ غَيْرٌ ﴾

غیرت مند

دینی معاملات میں انتہائی غیرت مند اور اپنی ذات کے لئے ریشم کی طرح نرم

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا

﴿ مَكِّيٌّ ﴾

مکہ کے رہنے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا

﴿ صَابِرٌ ﴾

صبر کرنے والے

ہر تکلیف برداشت کرنے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا

﴿ صَاحِبٌ ﴾

ساتھی

ہر نیک متقی مؤمن کے ساتھی

﴿ اَلْخَيْرِ ﴾

سراپا بھلائی

آپ ﷺ تمام دینی اور دنیاوی بھلائوں کا سبب ہیں۔
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ عَرَبِيٌّ ﴾

عرب کے رہنے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ طَيِّبٌ ﴾

پاکیزہ

آپ ﷺ ظاہری و باطنی پاکیزگی میں بے مثال تھے۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ نَاصِرٌ ﴾

مددگار

آپ ﷺ بلا تصدیق ہر ایک کی مدد کے لئے کوشاں اور ساعی رہتے تھے۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ مَنصُورٌ ﴾

مدد کئے گئے

فرشتوں اور رُعب کے ذریعے آپ ﷺ کی مدد کی گئی۔

﴿ صَفِيُّ اللهِ ﴾

اللہ تعالیٰ کے پسند اور منتخب کئے گئے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ قَرِيبٌ ﴾

اللہ تعالیٰ کے قریب

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ خَلِيلٌ ﴾

حقیقی دوست

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ اٰخِرٌ ﴾

آخرت نبی، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ مَحْفُوظٌ ﴾

حفاظت کئے گئے

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی حفاظت کا ذمہ لیا۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ حَسِيبٌ ﴾

بڑے خاندانی حسب نسب والے

﴿ مَعْلُومٌ ﴾

جانے گئے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ مُبِينٌ ﴾

دین کو واضح کرنے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ مُتَبَسِّمٌ ﴾

تبسم فرمانے والے، مسکراتے چہرے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ مَأْمُورٌ مِّنَ اللَّهِ ﴾

اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کئے گئے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ مُبَارَكٌ ﴾

برکت والے

آپ ﷺ کی دینی اور دنیاوی برکتیں ظاہر ہیں۔
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ مُطَهَّرٌ ﴾

پاک کئے گئے (ہر قسم کی برائیوں اور شیطانی وسوسوں سے پاک کئے گئے)۔

﴿ مَشْكُورٌ ﴾

بہت شکر گزار

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ جَوَادٌ ﴾

بزرگ سخاوت کرنے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ عَادِلٌ ﴾

انصاف کرنے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ سَيِّدٌ ﴾

سر دار

سب کے سر دار

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

﴿ اِمَامٌ ﴾

پیشوا

سب کے امام

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا



ظَاهِرٌ

غلبہ پانے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

كَرِيمٌ

کرم کرنے والے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

خَاتِمُ الرُّسُلِ

آخری نبی

قیامت تک آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا



يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

حرفِ آخر

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، قیامت تک دُرود و سلام ہو سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین، ہمارے آقا، حضرت محمد ﷺ پر اور آپ ﷺ کی آل و اولاد پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر جو ہدایت کے ستارے ہیں اور دین اسلام کے پھیلانے والے ہیں، نیز اُن مومنین اور مومنات پر بھی جو ایمان کے ساتھ ان کا اتباع کرنے والے ہیں۔

الحمد للہ! مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے بارے میں جاننا اتنا ضروری نہیں، جتنا اپنے آقا، رحمۃ للعالمین ﷺ کو جاننا ضروری ہے..... ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے آقا، حضور اقدس ﷺ کے مرتبہ و عظمت کو پہچانیں..... آپ ﷺ کی معرفت حاصل کریں..... آپ ﷺ کی معرفت سے آپ ﷺ کی محبت نصیب ہوگی..... آپ ﷺ کی محبت سے آپ ﷺ کی اتباع کرنی آسان ہوگی..... آپ ﷺ کی اتباع سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا..... اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب ہی مومن کا مقصود ہے۔

آج کا مسلمان دُنیا میں ایسا مصروف ہو گیا ہے کہ اپنے خالق و مالک، اللہ جل شانہ اور اُس کے پیارے حبیب، حضور اقدس ﷺ کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے۔ دین اسلام کی فکر..... آپ ﷺ والی فکر..... ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے،

کے منصوبے سوچ رہا ہے۔

میرے ماں باپ قربان، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر، جنہوں نے حضور اقدس ﷺ کے کلمے کو پھیلانے کے لئے اپنی جانوں، اپنی اولادوں اور اپنے مالوں کو قربان کر دیا۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکانے لگے تو ابوسفیان نے کہا! اب بھی اپنے نبی (ﷺ) کا ساتھ چھوڑ دے تو نجات پا جائے گا، انہوں نے عربی میں اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ ہے:

اے ابوسفیان! کس دھوکے میں پڑ گئے

میرا سب کچھ دین پر قربان ہو سکتا ہے

لیکن میں اپنے محبوب ﷺ کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا

لٹکا دو مجھے سولی پر اور میرے آنسوؤں سے دھو کہ نہ کھانا

میں موت کے ڈر سے نہیں، دوزخ کے ڈر سے رو رہا ہوں

جان قربان کروں گا لیکن اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔

جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو مارنے کے لئے نیزے اٹھائے گئے تو

انہوں نے دُعا کی، یا اللہ! اپنے حبیب ﷺ کو میرا ”سلام“ پہنچا دے، چنانچہ اسی

وقت حضرت جبرائیلؑ آپ ﷺ کی خدمتِ اقدس میں، مسجد نبوی ﷺ میں حاضر

ہوئے اور انہوں نے عرض کیا! یا رسول اللہ! خبیبؓ آپ ﷺ کو سلام پیش کر رہے

ہیں، اُن کو قریش نے شہید کر دیا ہے۔

اسی طرح صحابیاتؓ نے بھی قربانیاں پیش کیں تاکہ اللہ کا دین سر بلند

تیری یاد بھی میرے دل میں ایسے ہی طلوع اور غروب ہوتی رہے گی

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شعر سن لیا اور بیٹے پر ترس آیا..... بیٹے سے کہا کہ رجوع کر لے..... انہوں نے دوبارہ رجوع کر لیا..... حضرت عاتکہ گھر آگئیں، لیکن حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے پھر جان کہاں دی؟..... تیس سال کے نوجوان تھے..... طائف کی پہاڑیوں میں، سینے پر تیر لگا..... اور وہی زخم رستے رستے موت کا سبب بنا..... پہلے عبداللہ کے شعر تھے..... اب عاتکہ بے قرار ہوئی..... انہوں نے بھی اپنے خاوند کی جدائی پر شعر پڑھا:

ترجمہ: میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ میری آنکھ کا پانی کبھی خشک نہ ہوگا
اور میرا جسم کبھی نرم کپڑا نہیں پہنے گا۔

صحابی رسول ﷺ حضرت عقبی بن نافع رضی اللہ عنہ افریقہ میں داخل ہوئے، تیونس کے ساحل پر اترے، وہاں بربر قوم آباد تھی، ان کو اسلام کی دعوت دی، ان سے جہاد کیا، پھر آگے چلے یہاں تک کہ بحر اوقیانوس تک پہنچ گئے، اندلس سے چلے، تیونس سے چلے اور مراکش تک پہنچ گئے، یہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے، اس میں صحرائے اعظم بھی آتا ہے، اس کو پار کیا اور سمندر جب سامنے دیکھا تو ایک ٹھنڈی آہ بھری اور فرمایا!

”یہ سمندر راستے میں حائل ہو گیا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اس سے آگے بھی

بنائیں گے کہ ساری دُنیا کے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں اور اس سلسلہ میں دِن کو اللہ کی مخلوق پر محنت کریں گے اور راتوں کو اللہ کے سامنے آہ و زاری کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو کر اپنی قدرتِ کاملہ سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اور پوری امت کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی ہدایت عطا فرمائے گا۔ (انشاء اللہ العزیز)

بلاشبہ ہم نے سب سے بڑا جرم یہ کیا ہے کہ دُنیا کے سارے کاموں کا اپنا کام سمجھا، لیکن اپنے آقا، سید الانبیاء والمرسلین، رحمۃ اللعالمین ﷺ والے کام کو اپنا کام نہیں سمجھا..... ہمیں اس جرمِ عظیم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی چاہئے اور اپنے آقا ﷺ والی محنت (دعوت الی اللہ) کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ شانہ سے دُعا ہے کہ وہ پاک ذات ساری امتِ مسلمہ کو اپنی اور اپنے لاڈلے حبیب، رحمۃ اللعالمین ﷺ کی سچی محبت نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔

آمین (بجاہِ رحمۃ اللعالمین ﷺ)

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

دُعا

اے خاصہ خاصانِ رُسلِ وقتِ دُعا ہے
 اُمتِ پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے
 دولت ہے، نہ عزت، نہ فضیلت، نہ ہنر ہے
 اک دین ہے باقی سو وہ برگ و نوا ہے
 عشرت کدے آباد تھے جس قوم کے ہر سو
 اس قوم کا ایک ایک گھرا بزمِ عزا ہے
 کھوج اس کے کمالات کا لگتا ہے اب اتنا
 گم دشت میں اک قافلہ بے طبل و درا ہے
 بگڑی ہے کچھ ایسی کہ بنائے نہیں بنتی
 ہے اس سے یہ ظاہر کہ حکمِ قضا ہے
 جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت
 شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے
 کر حق سے دُعا اُمتِ مرحوم کے حق میں
 خطروں میں بہت جس کا جہاز آکے گرا ہے
 تدبیر سنبھلے کی ہماری نہیں کوئی
 ہاں ایک دُعا تیری کہ مقبولِ خدا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ